

سندھ آرڈیننس نمبر LXVI مجریہ ۱۹۸۴

SINDH ORDINANCE NO.LXVI OF 1984

سندھ یتیم خانے (نظرداری اور ضابطہ) (ترمیم) آرڈیننس، ۱۹۸۴

THE SINDH ORPHANAGES (SUPERVISION AND CONTROL) (AMENDMENT) ORDINANCE, 1984

فہرست (CONTENTS)

تمہید (Preamble)

۱۔ مختصر عنوان اور شروعات

Short title and commencement

۲۔ ۱۹۷۶ کے سندھ ایکٹ کی ترمیم

Amendment of Sindh Act 1976

۳۔ ۱۹۷۶ کے سندھ ایکٹ کی دفعہ ۲ کی ترمیم

Amendment of Section 2 of Sindh Act 1976

۴۔ ۱۹۷۶ کے سندھ ایکٹ کی دفعہ ۴ کی ترمیم

Amendment of Section 4 of Sindh Act 1976

۵۔ ۱۹۷۶ کے سندھ ایکٹ کی دفعہ ۱۷ کی ترمیم

Amendment of Section 17 of Sindh Act 1976

سندھ آرڈیننس نمبر LXVI مجریہ ۱۹۸۴

SINDH ORDINANCE NO.LXVI OF

1984

سندھ یتیم خانے (نظرداری اور ضابطہ) (ترمیم)
آرڈیننس، ۱۹۸۴

**THE SINDH ORPHANAGES
(SUPERVISION AND CONTROL)
(AMENDMENT) ORDINANCE,
1984**

[۱۲ دسمبر ۱۹۸۴]

تمہید (Preamble)

آرڈیننس جس کی توسط سے سندھ یتیم خانے (نظرداری اور ضابطہ) ایکٹ، ۱۹۷۶ میں ترمیم کی جائے گی۔

جیسا کہ شرعی عدالت نے سندھ یتیم خانے (نظرداری اور ضابطہ) ایکٹ، ۱۹۷۶ میں کچھ ترامیم کرنے کی ہدایت کی ہے؛

اور جیسا کہ سندھ یتیم خانے (نظرداری اور ضابطہ) ایکٹ، ۱۹۷۶ میں ترمیم کرنا مقصود ہے، جو اس طرح ہوگی؛

مختصر عنوان اور
شروعات

Short title and
commencement

اب اس لیئے، پانچویں جولائی ۱۹۷۷ کے اعلان اور پروویزنل کانسٹیٹوشن آرڈر، ۱۹۸۱ کی روشنی میں سندھ کے گورنر نے مندرجہ ذیل آرڈیننس بنا کر نافذ کرنا فرمایا ہے۔

۱۹۷۶ کے سندھ
ایکٹ کی ترمیم

۱۔ (۱) اس آرڈیننس کو سندھ یتیم خانے (نظرداری اور ضابطہ) (ترمیم) آرڈیننس، ۱۹۸۴ کہا جائے گا۔

(۲) یہ فی الفور نافذ ہوگا۔

۲۔ سندھ یتیم خانے (نظرداری اور ضابطہ) ایکٹ،

Amendment of
Sindh Act 1976

۱۹۷۶ کے سندھ
ایکٹ کی دفعہ ۲ کی
ترمیم

Amendment of
Section 2 of
Sindh Act 1976

۱۹۷۶ کے سندھ
ایکٹ کی دفعہ ۴ کی
ترمیم

Amendment of
Section 4 of
Sindh Act 1976

۱۹۷۶ کے سندھ
ایکٹ کی دفعہ ۱۷ کی
ترمیم

Amendment of
Section 17 of
Sindh Act 1976

۱۹۷۶ میں، جس کو اس کے بعد بھی مذکورہ ایکٹ کہا جائے گا، سارے ایکٹ میں ما سوائے دفعات ۲۷ اور ۲۸ کے، لفظ "یتیم خانہ" اور لفظ "یتیم خانے" اور لفظ "ایک یتیم خانہ" جہاں بھی آئیں، ان کو لفظ "دارالاطفال" اور الفاظ "ایک دارالاطفال" سے ترتیبوار تبدیل کیا جائے گا۔

۳۔ مذکورہ ایکٹ کے دفعہ ۲ میں:

(i) شق (d) کے بعد مندرجہ ذیل نئی شق شامل کی جائے گی:

"(dd) "دارالاطفال" مطلب ایک جگہ یا ادارہ جو یتیم اپنائے، سنبھالنے اور ان کی دیکھ بھال کے لیئے استعمال ہوگا۔"

(ii) شق (k) کو ختم کیا جائے گا۔

۴۔ مذکورہ ایکٹ کی دفعہ ۳ میں، ذیلی دفعہ (۳) کے شرطیہ بیان میں، آخر میں آنے والے فل اسٹاپ کو کولن سے تبدیل کیا جائے گا اور اس کے بعد مندرجہ ذیل شرطیہ بیان شامل کیا جائے گا:

"بشرطیکہ کوئی بھی میمبر سننے کا موقعہ دیئے بغیر نہیں ہٹایا جائے گا۔"

۵۔ مذکورہ ایکٹ کی دفعہ ۱۷ میں، آخر میں آنے والے فل اسٹاپ کو کولن سے تبدیل کیا جائے گا اور اس کے بعد مندرجہ ذیل شرطیہ بیان شامل کیا جائے گا:

"بشرطیکہ کوئی بھی حکم جاری نہیں کیا جائے گا جب تک اپیلنٹ کو سننے کا موقعہ نہیں فراہم کیا جاتا۔"

نوٹ: آرڈیننس کا مذکورہ ترجمہ عام افراد کی واقفیت کے لئے ہے، جسے کورٹ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔